



گھریلو اور عائلی تشدد

آسٹریلیا میں گھریلو اور عائلی تشدد کو قبول نہیں کیا جاتا۔

گھریلو اور عائلی تشدد قانون کے خلاف ہیں اور جرم ہیں۔

ان جرائم کا ارتکاب کرنے والا جیل جا سکتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔

اگر آپ کو یا آپ کے کسی واقف کو کوئی خطرہ ہے تو **000** پر پولیس کو فون کریں۔
آسٹریلیا میں پولیس سے رابطہ کرنا محفوظ ہے اور پولیس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔
مفت، رازدارانہ مشورے اور معلومات کیلئے **1800 737 732** پر 1800RESPECT کو فون کریں۔
اگر آپ کو مفت انٹرنیٹ (ترجمان) کی ضرورت ہو تو **131 450** پر فون کریں۔

آسٹریلیا کی حکومت کسی طرح کے حالات میں گھریلو اور عائلی تشدد کو برداشت نہیں کرتی۔

گھریلو اور عائلی تشدد میں ایسا رویہ یا دھمکیاں شامل ہیں جن کا مقصد پارٹنر (ساتھ رہنے والے یا شریک حیات) کو اس کی سلامتی کے بارے میں خوفزدہ کر کے یا دھمکا کر کنٹرول کرنا ہو۔ گھریلو اور عائلی تشدد میں یہ شامل ہو سکتا ہے:

- مارنا؛
- گلا دہانا؛
- گھر والوں یا پارٹنر کو ضرورت کے پیسوں سے محروم رکھنا؛
- پارٹنر کو دوستوں اور رشتہ داروں سے الگ رکھنا؛
- پارٹنر کی توہین کرنا یا اس پر لگاتار تنقید کرنا؛
- پارٹنر کو سیکس (جنسی فعل) کیلئے مجبور کرنا؛ اور
- بچوں یا پالتو جانوروں کو دھمکانا۔

عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق حاصل ہیں۔

آسٹریلیا کا قانون عورتوں اور مردوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرتا ہے۔

ہر شخص کو اپنے گھر والوں، دوستوں اور پیاروں کے ساتھ خوشگوار اور محفوظ رشتوں میں جینے کا حق حاصل ہے۔ تشدد کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ کسی کو یہ قبول نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے یا اسے نقصان پہنچایا جائے۔

آسٹریلیا میں مختلف تہذیبوں کا احساس رکھنے والی خدمات موجود ہیں جو مدد کر سکتی ہیں۔

1800RESPECT آسٹریلیا میں جنسی حملے، گھریلو اور عائلی تشدد کیلئے کاؤنسلنگ (ماہرانہ مشورے) کی قومی سروس ہے۔ یہ سروس فون پر اور آن لائن مفت، رازدارانہ کاؤنسلنگ اور معلومات فراہم کرتی ہے۔ کاؤنسلرز (صلاح کار) آپ کی بات سنتے ہیں، سوالات کا جواب دیتے ہیں اور آپ کے مقامی علاقے میں دوسری امدادی خدمات سے آپ کا رابطہ کرا سکتے ہیں۔
1800 737 732 پر فون کریں یا **1800RESPECT** کی ویب سائٹ **www.1800RESPECT.org.au** دیکھیں۔

کیا آپ کو انٹرنیٹ (ترجمان) کی ضرورت ہے؟

تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس (Translating and Interpreting Service, TIS) کو **131 450** پر فون کریں۔ TIS کا ترجمان دوسری خدمات سے بات کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے تاہم TIS ماہرانہ مشورہ فراہم نہیں کرتی۔ یہاں کال کرنا ہمیشہ مفت اور رازدارانہ ہوتا ہے۔